

# حیا اور ایمان سے متعلق ایک حدیث پاک اور اس کی شرح

مجیب: مولانا فرحان احمد عطاری مدنی

فتویٰ نمبر: Web-1701

تاریخ اجراء: 06 ذوالحجۃ المرام 1445ھ / 13 جون 2024ء

## دارالافتاء اہلسنت

(دعوت اسلامی)

### سوال

کیا اس طرح کی کوئی حدیث موجود ہے کہ حیا اور ایمان ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، جب ان میں سے ایک چلا جائے، تو دوسرا خود بخود چلا جاتا ہے؟

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْجَوَابُ بِعَوْنِ الْمَلِکِ الْوَهَّابِ اَللّٰهُمَّ هِدَايَةَ الْحَقِّ وَالصَّوَابِ

اس طرح کی حدیث مختلف کتب احادیث میں موجود ہے، اور اس حدیث میں ایمان سے مراد کامل ایمان، اور حیا سے مراد ایمانی شرم و غیرت ہے، لہذا جو شخص ایمانی شرم و غیرت کی کمی کی وجہ سے گناہوں والے کام کرے تو وہ کامل ایمان والا نہیں ہے۔ البتہ جب تک کوئی کفریہ بات نہ پائی جائے تو محض کسی بھی گناہ کے ارتکاب کرنے سے بندہ کافر نہیں ہو جاتا۔

مشکوٰۃ المصابیح میں ہے: ”عن ابن عمر: ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قال: ان الحیاء والایمان قرناء جمیعا، فاذا رفع احدهما رفع الآخر۔“ وفی روایة ابن عباس: فاذا سلب احدهما تبعه الآخر“ ترجمہ: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ: حیا اور ایمان دونوں ساتھی ہیں، تو جب ان میں سے ایک اٹھالیا جاتا ہے تو دوسرا بھی اٹھالیا جاتا ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے: جب ان میں سے ایک چھین جاتا ہے، تو دوسرا اس کے ساتھ جاتا ہے۔ (مشکوٰۃ المصابیح مع مرقاة المفاتیح، جلد 9، صفحہ 285، حدیث: 5093-5094، مطبوعہ: بیروت)

اس حدیث کے تحت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ”یعنی حیا اور ایمان رہنے اور جانے میں ساتھ ہیں، جس دل میں ہوں گے دونوں ہوں گے، نہ ہوں گے دونوں نہ ہوں گے، مومن بے حیا نہیں

ہو سکتا، کافر حیا دار نہیں ہو سکتا، خیال رہے یہاں ایمان سے مراد کامل ایمان ہے، اور حیا سے مراد ایمانی شرم و غیرت ہے، یعنی اللہ و رسول سے غیرت جو گناہوں سے روک دے۔“ (مرآة المناجیح، جلد 6، صفحہ 649، مطبوعہ: گجرات)

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ عَزَّوَجَلَّ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهِ وَسَلَّمَ



**Dar-ul-Ifta Ahlesunnat (Dawat-e-Islami)**



[www.daruliftaahlesunnat.net](http://www.daruliftaahlesunnat.net)



[daruliftaahlesunnat](https://www.facebook.com/daruliftaahlesunnat)



[DaruliftaAhlesunnat](https://www.youtube.com/DaruliftaAhlesunnat)



[Dar-ul-ifta AhleSunnat](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.daruliftaahlesunnat)



[feedback@daruliftaahlesunnat.net](mailto:feedback@daruliftaahlesunnat.net)